

## گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کارائے عامہ سروے موضوع: "صحت کی نگہداشت" "عمومی صحت"

صحت کی ضروریات کا پورا نہ ہونا: ہر 5 میں سے 1 پاکستانی (24%) کے مطابق وہ یا ان کے گھرانے کے افراد مالی معاملات اور انتظامی مسائل کی وجہ سے پیشہ ورانہ طبی امداد (سہولیات) سے فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھنے کے باوجود اس سے استفادہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔


گیلپ & گیلانی پاکستان،

اسلام آباد، 07 دسمبر، 2017

گیلپ & گیلانی پاکستان کے ایک حالیہ سروے کے مطابق، ہر 5 میں سے 1 پاکستانی (24%) کے مطابق وہ یا ان کے گھرانے کے افراد مالی معاملات اور انتظامی مسائل کی وجہ سے پیشہ ورانہ طبی امداد (سہولیات) سے فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھنے کے باوجود اس سے استفادہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

سروے میں ملک بھر سے شماریاتی طور پر منتخب مرد و خواتین سے یہ سوال پوچھا گیا کہ، "گزشتہ ایک سال کے دوران کیا کبھی ایسا وقت آیا جب آپ یا آپ کے گھرانے کے کسی فرد کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاسکے؟"، اس سوال کے جواب میں 24% جوابدہندگان کے مطابق "ہاں" گزشتہ ایک سال کے دوران ایسا وقت آیا جب ان کے گھرانے کے کسی فرد کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاسکے، جبکہ 76% جوابدہندگان کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران ایسا وقت کبھی نہیں آیا۔

"گزشتہ ایک سال کے دوران کیا کبھی ایسا وقت آیا جب آپ یا آپ کے گھرانے کے کسی فرد کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاسکے؟"




Source: Gallup & Gilani Pakistan Poll

Field work conducted by Gallup & Gilani Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association  
([www.gallup-international.com](http://www.gallup-international.com); [www.gallup.com.pk](http://www.gallup.com.pk); [www.gilanifoundation.com](http://www.gilanifoundation.com))

جن جوابدہندگان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ایسا وقت آیا جب ان کے گھرانے کے کسی فرد کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاسکے ان سے مزید پوچھا گیا کہ، "اگر ہاں تو آپ کس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہ جاسکے؟"، اس سوال کے جواب میں 58% جوابدہندگان کے مطابق ضرورت محسوس ہونے کے باوجود ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کی وجہ "پیسوں کی کمی" تھی، جبکہ 42% جوابدہندگان کے مطابق ضرورت محسوس ہونے کے باوجود ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کی وجہ "ڈاکٹر بہت دور تھا"۔

"اگر ہاں تو آپ کس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہ جاسکے؟"



گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کا حالیہ سروے گیلپ انٹرنیشنل سے منسلک گیلپ اور گیلانی پاکستان کی مدد سے کیا گیا۔ یہ سروے پاکستان کے چاروں صوبوں کی دیہی و شہری آبادی کے 1703 مرد و خواتین سے 23 اکتوبر تا 30 اکتوبر 2017 میں منعقد ہوا۔ غلطی کے امکان کا تخمینہ شماریاتی طور پر تقریباً  $\pm 2-3\%$  لگایا گیا ہے۔



**Thursday, December 07, 2017**

*(2 Pages including this only Urdu version)*

**Gilani Research Foundation is a not for profit public service project to provide social science research to students, academia, policy makers and concerned citizens in Pakistan and across the globe.**

*Gilani Research Foundation is headed by Dr. Ijaz Shafi Gilani who pioneered the field of opinion polling in Pakistan and established Gallup Pakistan in 1980. Currently Dr. Gilani, who holds a PhD from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and has taught at leading universities in Pakistan and abroad, is Chairman of Gallup & Gilani Pakistan.*

*If you have any further questions regarding this poll, please feel free to contact us.*

*Best Regards,*

*Ms. Fatima Idrees*

*Phone: +92-51-2655630*

*E-mail: [fatima.idrees@gilanifoundation.com](mailto:fatima.idrees@gilanifoundation.com)*

**Disclaimer:** *Gallup Pakistan is not related to Gallup Inc. headquartered in Washington D.C. USA. We require that our surveys be credited fully as Gallup Pakistan (not Gallup or Gallup Poll). We disclaim any responsibility for surveys pertaining to Pakistani public opinion except those carried out by Gallup Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association. For details on Gallup International Association see website: [www.gallup-international.com](http://www.gallup-international.com)*



Daily Gilani Poll  
2017



of Gallup Pakistan  
(1980-2017)